

13261- غیر محرم رشتہ دار کے سامنے چہرہ نگار رکھنا

سوال

دو شادی شدہ بھائی ایک ہی فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں، تو کیا ان کی بیویاں ایک دوسرے کے سامنے اپنا چہرہ نگار کر سکتی ہیں، یہ علم میں رہے کہ وہ دونوں بھائی صحیح ہیں؟

پسندیدہ جواب

اگر پوری فیملی اکٹھی رہتی ہو تو پھر عورت کو غیر محرم مرد سے پردہ کرنا واجب ہے، لہذا بھائی اپنے دیور سے پردہ کر لگی، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے بھائی کے سامنے اپنا چہرہ نگار کرے، کیونکہ خاوند کا بھائی تو دیکھنے اور حرام ہونے کے اعتبار سے ایک بازار والے مرد کی طرح ہی ہے، اور اگر خاوند گھر سے باہر ہو تو دیور یعنی خاوند کے بھائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھائی سے خلوت کرے اور اس کے ساتھ بیٹھے یہ ایک ایسی مشکل ہے جس سے اکثر لوگ دوچار ہیں مثلاً:

دو بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور ایک شادی شدہ ہے تو اس شادی شدہ شخص کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ ملازمت یا تعلیم کے لیے گھر سے باہر جائے تو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے پاس چھوڑے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”کوئی بھی مرد کسی عورت سے خلوت نہ کرے“

اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا:

”تم عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو“

تو صحابہ کرام نے عرض کیا:

اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: ذرا دیور (الحمو خاوند کے رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں) کے متعلق تو بتائیں؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا:

”دیور تو موت ہے“

ہمیشہ اس حالت میں زنا کے جرم کے
وقوع کا سوال ہوتا ہے، کہ مرد گھر سے باہر چلا جاتا ہے، اور بھابھی اور دیور گھر
میں اکیلے ہوتے ہیں، ت و انہیں شیطان ور غلا تا ہے جس کی بنا پر وہ زنا کر بیٹھتے ہیں
(اللہ اس سے محفوظ رکھے) وہ اپنے بھائی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، جو کہ پڑوسی کی
بیوی سے زنا کے جرم سے بھی بڑا جرم ہے۔

بلکہ یہ معاملہ تو اس سے بھی بڑی ذلت
والا ہے، بہر حال میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس سے میں اللہ کے ہاں اپنے آپ کو بری
کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ: کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے
بھائی کے پاس گھر میں اکیلا چھوڑ کر جائے، چاہے ظروف اور معاملات کیسے بھی ہوں، حتیٰ
کہ اگر بھائی سب لوگوں سے با اعتماد اور سچا اور نیک و صالح بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ
شیطان تو انسان میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، اور جنسی شہوت کی کوئی حد نہیں،
خاص کر نوجوانی کی حالت میں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دو بھائی ایک
ہی گھر میں ہوں اور ایک شادی شدہ ہو تو کیا کیا جائے؟

کیا اسکا معنی یہ ہے کہ جب وہ گھر
سے باہر ملازمت پر جائے تو بیوی بھی اس کے ساتھ جائے؟

اسکا جواب یہ ہے کہ:

نہیں، گھر کو دو حصوں میں تقسیم کرنا
ممکن ہے، آدھا اکیلے بھائی کو دے دیا جائے، اور آدھا خود رکھ لے، جس میں دروازہ لگا
کر اسے جاتے وقت تالا لگا دے، اور چابی خاوند کے پاس ہو، اور عورت ایک مستقل حصہ
میں رہے، اور دیور علیحدہ مستقل حصہ میں۔

لیکن ہو سکتا ہے بھائی اپنے بھائی سے
جھگڑا کرتے ہوئے کہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟

اسکا جواب یہ ہے کہ: اسے یہ کہنا

چاہیے کہ میں نے ایسا آپ کی مصلحت کے لیے کیا ہے، کیونکہ شیطان ابن آدم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، ہوسکتا ہے شیطان آپ کو ورغلائے اور آپ کے نفس پر زبردستی کرے اور آپ کی شہوت آپ کی عقل پر غالب آجائے، تو اس طرح آپ ایک ممنوعہ اور حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھیں، تو میں یہ چیز آپ کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں آپ ہی کی مصلحت ہے، اسی طرح میری بھی اسی میں مصلحت ہے، اور اگر وہ اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا پھرے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔

میں یہ مسئلہ آپ تک پہنچا کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے آپ کی مسئولیت سے بری کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا حساب اللہ کے ذمہ۔

رہا چہرہ ننگا کرنے کا مسئلہ تو چہرہ ننگا کرنا حرام ہے، اور کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ دیور یعنی خاوند کے بھائی کے سامنے اپنا چہرہ ننگا رکھے، کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی اور غیر محرم ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی اور بازار والا آدمی ہو۔